

حکومت پاکستان
ریونیوڈویشن
فیڈرل بورڈ آف ریونیو

اسلام آباد، 30 جولائی 2026ء

نوٹیفکیشن

SRO 1239(1)/2026 انکم ٹیکس قواعد، 2002 میں بعض مزید ترامیم کے درج ذیل مسودے کو، جسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 (XLIX of 2001) کی دفعہ 133 A کی ذیلی دفعہ (4) اور دفعہ 237 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے نافذ کرنے کی تجویز رکھتا ہے، ان تمام افراد کی معلومات کے لیے شائع کیا جاتا ہے جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔

مزید برآں، مذکورہ دفعہ 237 کی ذیلی دفعہ (3) کے مطابق یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو ان مجوزہ ترامیم پر کوئی اعتراض یا تجویز پیش کرنی ہو تو وہ سرکاری گزٹ میں ان ترامیم کی اشاعت کے تین دن کے اندر بورڈ کے غور و خوض کے لیے ارسال کر سکتا ہے۔

مذکورہ مدت کے اختتام سے قبل موصول ہونے والے تمام اعتراضات یا تجاویز کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو زیر غور لائے گا۔

مجوزہ ترامیم

مذکورہ قواعد میں، قاعدہ CB 231 کی ذیلی قاعدہ (3) میں درج ذیل ترامیم کی جائیں گی:

1. کمیٹی نمبر 1 میں، جدول کے سیریل نمبر 1، 2 اور 3 کے مقابل، کالم (4) کے پیرا گراف (iv) میں درج عبارت "CTO" اسلام آباد "کو حذف کر دیا جائے گا۔
2. کمیٹی نمبر 2 میں، جدول کے سیریل نمبر 1، 2 اور 3 کے مقابل، کالم (4) کے پیرا گراف (iv) میں درج عبارت "RTO" لاہور "کی جگہ "RTO-I" لاہور RTO-II، لاہور " درج کیا جائے گا۔
3. کمیٹی نمبر 3 میں، جدول کے سیریل نمبر 1، 2 اور 3 کے مقابل، کالم (4) کے پیرا گراف (iv) میں درج عبارت "CTO" کراچی "کی جگہ "CTO-I" کراچی - اور "CTO-II، کراچی " درج کیا جائے گا۔

[F.No.1 (2)R&S/2026]

(محمد امین قریشی)

سکریٹری (قواعد و ایس آر او)